

# BUSINESS RECORDER

Karachi, Friday 26 April 2024, 17 Shawwal 1445

The shareholders of Bank Alfalah Limited ("the Bank") are hereby informed that the Board of Directors of the Bank in its meeting held on 24th April 2024 has recommended an interim cash dividend at the rate of Rs. 2/- per share i.e. 20% to the shareholders of the Bank for the First Quarter ended March 31, 2024.

The above entitlement will be paid to the shareholders whose names will appear in the Register of Members on the close of business on 6th May 2024. The Share Transfer Books of the Bank will be closed from 7th May 2024 to 9th May 2024 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Bank's Share Registrar M/s. F. D. Registrar Services (Pvt.) Limited, before the close of business on 6th May 2024 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

Karachi:  
April 26, 2024

Muhammad Akram Sawleh  
Company Secretary

#### Mandatory Submission of CNIC:

Those shareholders who have not yet submitted a valid copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) are once again requested to submit the same immediately to the Bank's Share Registrar, M/s. F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Office No. 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower 'A', I.I. Chundrigar Road, Karachi. Telephone: 92 21 32271905, 92 21 32271906; Fax: 92 21 32621233.

#### Payment of Cash Dividend through Electronic Mode (e-Dividend):

Section 242 of the Companies Act, 2017 requires to the listed companies that cash dividends shall only be paid through electronic mode directly into the bank account as designated by the entitled shareholders.

It has been noticed that some of the shareholders have not yet provided complete and correct details of their designated bank account (i.e. Title of Bank Account; IBAN No.; Bank Name; Branch Code; Branch Name and Address; Cell Phone Number; CNIC No. and Email Address), therefore payment of their previous cash dividends are still held outstanding. Those shareholders are again requested to provide the above details in their CDS accounts through their respective Participants OR CDC Investor Account Services (if shares are held in electronic form) OR to Share Registrar of the Bank (if shares are held in physical form).

#### Withholding Tax on cash dividends:

Shareholders are informed that pursuant to the provisions of the relevant laws/regulations the rates of deduction of income tax from dividend payments under the Income Tax Ordinance, 2001 are (a) 15% for filers of income tax returns and (b) 30% for non-filers of income tax returns.

#### Conversion of Physical Shares Into Book Entry Form Shares

The shareholders, having shares in physical scrips of the Bank are once again informed that as per the provisions of Sub Section (2) of the Section 72 of the Companies Act, 2017, every company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act i.e. May 31, 2017. Accordingly, as per the instructions issued by SECP vide its Letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 date March 26, 2021, such shareholders are requested to arrange to convert their shares held in physical form into book-entry-form. For this purpose, the shareholder shall be required to open an account with either Central Depository Company (CDC) or any Trading Rights Entitlement Certificate holder (Securities Broker) of Pakistan Stock Exchange. In this regard, such shareholders have already been informed through newspaper notice published in July 2021 and a letter along with copy of SECP's letter was also dispatched at their registered addresses.





پاکستان کے 11 شہروں سے یک وقت شائع ہونے والا واحد اخبار

بہ 26، 231 | بعد 17 شوال 1445 = 26 اپریل 2024ء شحات 10 قیمت 40 روپے

### بینک الفلاح لمیٹڈ

عبوری منافع منقسمہ اور کتاب کی بندش

بینک الفلاح لمیٹڈ (’دی بینک‘) کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 31 مارچ 2024 کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کے لیے اپنے اجلاس منعقدہ 24 اپریل 2024 میں عبوری منافع منقسمہ کی ادائیگی 2 روپیہ فی شیئر کی شرح (یعنی 20%) کا اعلان کر دیا ہے۔

مذکورہ بالا منافع ان شیئر ہولڈرز کو ادا کیا جائے گا جن کے نام ممبرز کے رجسٹر میں 6 مئی 2024 کو کاروباری اوقات بند ہونے سے پہلے آئے ہیں۔ بینک کے شیئر ٹرانسفر کی کتابیں 7 مئی 2024 سے 9 مئی 2024 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹراز سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پر 6 مئی 2024 کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک وصول ہونے والے ٹرانسفرز ہی مذکورہ بالا ٹرانسفرز کے حقدار ہونے کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

محمد اکرم صالح  
کمپنی سیکریٹری

کراچی  
26 اپریل 2024

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ جمع کروانا لازمی ہے:

وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اب تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی مؤثر کاپی جمع نہیں کروائی، ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹراز سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، آفس نمبر 1705، 17 ویں منزل، صانمہ ٹریڈ ٹاور ’اے‘، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی، فون نمبر: 92 213227 1905، فیکس: 92 213227 1906، پر فوراً جمع کروائیں۔

تقد منافع منقسمہ کی برقی ذرائع (ای۔ ڈیویڈنڈ) سے ادائیگی:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کے مطابق ضروری ہے کہ لسٹڈ کمپنیاں، کیش ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈرز کو براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں الیکٹرانک طریقے سے ادا کریں گی۔ کچھ شیئر ہولڈرز نے اپنے مقررہ بینک اکاؤنٹ کی مکمل اور درست تفصیلات اب تک فراہم نہیں کی ہیں (یعنی بینک کا ٹائٹل، آئی بی اے این نمبر، بینک کا نام، برانچ کوڈ، برانچ کا نام اور پتہ، موبائل فون نمبر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر اور ای۔ میل ایڈریس)، لہذا ان کے پیچھے کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ ان شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ پارٹنر یا سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز (اگر شیئر الیکٹرانک فارم میں ہیں) یا بینک کے شیئر رجسٹرار (اگر شیئر فزیکل فارم میں ہیں) کے ذریعے اپنے سی ڈی سی اکاؤنٹس میں اپنے مقررہ بینک اکاؤنٹ کی مکمل اور درست معلومات فراہم کریں۔

کیش ڈیویڈنڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس:

شیئر ہولڈرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ متعلقہ قوانین / ریگولیشنز کے مطابق ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کی تکنیکی شرح انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت (a) انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلز کے لیے 15% اور (b) انکم ٹیکس ریٹرنز کے نان فائلز کے لیے 30% ہے۔

فزیکل شیئر کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

شیئر ہولڈرز جو بینک کے فزیکل اسکرپٹس رکھتے ہیں، انہیں ایک بار پھر مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 (’ایکٹ‘) کے سیکشن 72 کے ذیلی سیکشن (2) کی شرائط کے مطابق تمام کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکٹ کے اعلان یعنی 31 مئی 2017 سے چار سال کے اندر بتائے گئے طریقے سے اپنے فزیکل شکل میں موجود شیئر کو بک انٹری فارم میں تبدیل کر دیں۔ ایس ای سی بی نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-640 بتاریخ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسے شیئر ہولڈرز جن کے شیئر فزیکل فارم میں موجود ہیں انہیں بک انٹری فارم میں تبدیل کر وائیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں سینٹرل ڈپازٹری کمپنی یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی دیگر ٹریڈنگ رائلٹس انٹانٹلمنٹ سرفیکٹ ہولڈر (سیکیورٹیز بروکر) کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک خط ایسے تمام شیئر ہولڈرز کو جولائی 2021 میں اخبار میں نوٹس شائع کر کے مطلع کر دیا گیا ہے اور ان کے رجسٹر شدہ پتوں پر ایک لیٹر بمع ایس ای سی بی کا لیٹر بھیجا جا چکا ہے۔